



سوال

ایک وضوء کے ساتھ ایک سے زیادہ فرض نمازوں کو ادا کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا یہ جائز ہے۔ کہ ہم نیت کے بغیر ایک وضوء کے ساتھ دو فرض نمازیں ادا کر سکیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوٰۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ہاں انسان کے لئے جائز ہے۔ کہ اس نے مثلاً نماز ظہر کے لئے وضوء کیا ہو۔ اور پھر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور اس کا وضوء قائم ہو تو وہ اسی وضوء کے ساتھ نماز عصر ادا کر سکتا ہے۔ خواہ اس نے وضوء کرتے وقت اس کے ساتھ دو نمازوں کے ادا کرنے کی نیت نہ بھی کی ہو۔ کیونکہ نماز ظہر کے لئے جو اس نے وضوء کیا تھا۔ اس سے اس کا حدث ختم ہو گیا اور جب حدث ختم ہو جائے تو وہ دوبارہ کسی سبب ہی سے پیدا ہوگا۔ اور اس کے سبب وہ مشہور و معروف امور ہیں۔ جن سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے۔

انسان اگر نماز کی نیت کے بغیر بھی وضوء کر لے یعنی مثلاً اس نے محض رفع حدث کے لئے وضوء کیا ہو تو طہارت برقرار رہنے تک اس وضوء سے بھی وہ جس قدر چاہے فرض و نفل نمازیں ادا کر سکتا ہے۔

صداً ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 1 ص 394

محدث فتویٰ